



# FEDERAL DIRECTORATE OF EDUCATION

SUMMER VACATION WORK

Urdu-----Class-III

SESSION  
2023-24



[www.fde.gov.pk](http://www.fde.gov.pk)

موسم گرما کی تعطیلات کا کام

جماعت: سوم

- سبق نمبر 1 تا سبق نمبر ۵ (حمد تا سب ہیں خاص) تمام اسباق کی درست تلفظ کے ساتھ پڑھائی کریں اور پڑھائی کرنے کے بعد دیا گیا تحریری کام مکمل کریں۔

### تحریری کام (Written Work)

- حمد اور نعت زبانی یاد کریں اور کاپی میں خوشخط لکھیں۔
- بے مثل ہے ذات رسول کریم ﷺ کی، اگر میں نہ ہوں تو!، سب ہیں خاص، ان اسباق کے سوال و جواب لکھیں اور یاد کریں۔
- سبق نمبر ۱ تا سبق نمبر ۵ کے شروع میں دیے گئے الفاظ کی املاء یاد کریں اور لکھیں۔
- اپنے پرنسپل کے نام درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری اور درخواست برائے ضروری کام تحریر کریں۔
- سبق نمبر ۱ تا سبق نمبر ۵، ہر سبق میں سے پانچ الفاظ چنیں اور ان کے جملے بنائیں۔

### تفہیمی پیرا گراف

- جائزہ نمبر ۱ (صفحہ نمبر ۳۰) تفہیم کے سوالوں کے جواب دیں اور پیرا گراف میں سے دو اسم، دو فعل اور دو حرف چنیں اور لکھیں۔

### عملی کام: (Practical work)

- "انٹرنیٹ انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ" اور "حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین ﷺ" کی شخصیت کے بارے میں چارمنٹ کی تقریر ریکارڈ کریں اور اپنی ٹیچر کو واٹس ایپ کریں۔
- اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تصاویر پر مبنی ایک اسکرپ بک تیار کریں۔
- ٹریفک کی بتیاں، فٹ پاتھ اور زیبرا کراسنگ چارٹ پر بنائیں۔
- کم از کم پانچ مختلف پیشوں سے متعلق پوسٹر بنائیں اور ان میں رنگ بھریں۔

### تصویری وضاحت

- اخبارات، رسائل یا کسی کتاب سے دو تصاویر منتخب کریں۔ اور انکو اپنے الفاظ میں دس سے پندرہ جملوں میں پیرا گراف کی شکل میں لکھیں اور عنوان بھی تحریر کریں۔

### کہانیاں

- نونہال یا تعلیم و تربیت رسالوں میں سے کوئی سی پانچ کہانیاں پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں:

1. آپ نے جو کہانی پڑھی اس کے مصنف کا نام لکھیں۔

2. کہانی میں کتنے کردار تھے اور ان میں سے آپ کو کونسا کردار پسند آیا؟

3. کہانی کا مرکزی خیال اور اخلاقی سبق تحریر کریں۔